

فیملی ممبران کی گرفتاری یا ملک بدری کی صورتحال میں ہنگامی منصوبہ

آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہتر جواب تیار کیا جا رہا ہے!

ایک منصوبہ بنائیے:

1. اپنی بیوی اور گھر کے دوسرے بالغ العمر لوگوں کی لسٹ بنائیے کہ ہر ایک ان دوستوں اور فیملی ممبران کو جان سکے کہ وہ آپ کی فیملی کے کسی ممبر کی گرفتاری کے وقت مدد کر سکتا ہے۔
2. ایسے کسی شخص کو تلاش کرو جو آپ کے بچوں خیال کر سکے اگر آپ یا آپ کی بیوی کو ملک بدر کیا جاتا ہے۔ اس شخص سے اپنے بچوں کا خیال کرنے کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کرو۔ اگر ممکن ہو تو کچھ پیسے اخراجات اور گرفتار کئے گئے شخص کی آمدنی کے نقصان میں مدد کے لئے الگ سے رکھ دو۔
3. اگر ممکن ہو، تو ہنگامی فنڈ میں کچھ پیسے اخراجات اور آمدنی کے نقصان میں مدد کے لئے محفوظ کرنا اگر کوئی گرفتار کیا جاتا ہے۔
4. ہنگامی رابطہ کی معلومات کو اپنے بچے کے اسکول میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے وقت لینا تاکہ بالغ العمر لوگوں کے نمبر اور نام کا اضافہ کیا جا سکے (مثال کے طور پر، فیملی ممبران، دوست، پڑوسی، یا اسکول کے دوسرے سرپرست) جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بچے کو لے سکیں۔ یہ سب آپ اپنے بچے کے لئے، چائلڈ کیئر پروگرام اور کوئی بھی اسکول کے بعد ہونے والے پروگرام کے لئے جس میں آپ کا بچہ حصہ لیتا ہے۔
5. اگر آپ کے بچے امریکا کے شہری ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیے کہ ان کے پاس امریکا کا پاسپورٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ملک بدری انہیں امریکا سے بہار سفر کرنے پر مجبور کر دے۔ فارم تمام امریکی پوسٹ آفس میں مہیا ہیں۔
6. اپنے تمام امیگریشن دستاویزات کی فوٹو کاپی لے لو۔ ایک کاپی اپنے تمام دستاویزات کی اپنے دوست یا فیملی ممبر کو دے دو جس پر آپ یقین کرتے ہو۔
7. ان چیزوں ایک لسٹ بناؤ جو آپ کے بچے کرتے ہیں اگر انکے والدین اس وقت گھر نہیں آتے ہیں جس وقت ان کے آنے کی توقع ہے۔
8. ان چیزوں کی لسٹ بناؤ جو والدین یا سرپرست گرفتاری یا ملک بدری کی صورتحال میں کر سکتے ہیں۔
- اے۔ کمیونٹی اجنسی سے رابطہ کرو جو امیگریشن میں قانونی مدد دے سکتی ہے۔
- بی۔ اگر فیملی ممبر یا دوست گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کوئی اس کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے اس وقت یہ آدمی یا فیملی ممبر لیگل ایڈ سوسائٹی امیگریشن کے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے:

844-955-3425

- اگر کوئی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں تو آپ آئی سی ای کو 212.264.5085 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا آن لائن www.ice.gov/locator پر تلاش کر سکتے ہیں۔
 - فیملی ممبر اور انکے ملک کے فون نمبر کی لسٹ بنا لو تاکہ ہنگامی صورتحال میں ان سے رابطہ کیا جا سکے۔
9. ہمیشہ قانونی مدد فراہم کرنے والوں کے ٹیلی فون نمبر اور فیملی ممبر کے فون نمبر اپنے ساتھ رکھو جن سے آپ رابطہ کر سکیں اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں۔
 10. یاد رکھو، اگر آپ آئی سی ای ایجنٹ سے ذریعے پکڑ لئے جاتے ہیں تو آپ خاموش رہیں! آپ کو اپنا نام اور موجودہ شناخت بتانی چاہئے، لیکن افسران کو سوالوں کے جواب کے علاوہ کچھ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے یا ان دستاویزات پر دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کو آپ نہیں سمجھتے ہیں۔
 11. اگر کوئی افسر آپ کے گھر آتا ہے تو وہ صرف تلاشی وارنٹ کے ساتھ ہی داخل ہو سکتے ہیں یا اگر گھر میں موجود شخص داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آئی سی ای ایجنٹ آپ کے گھر پر ہیں اور انکے پاس تلاشی وارنٹ نہیں ہے تو آپ دروازہ نہ کھولئے۔
 12. اگر آپ امریکا میں دو سال سے زیادہ رہ چکے ہیں، تو ان دستاویزات کو جمع کریئے جو آپ کے امریکا میں موجودگی کو بیان کرتے ہوں۔

اپنے حقوق کو جانو! اپنے تمام حقوق سے باخبر رہو قبل اس کے کہ آپ کی فیملی متاثر ہو۔